

Name : Farah Shahid

Batch : 051

Campus : Islamabad Main Campus

Translation T: 1

Question No. 1

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف میں کھینچے، اگر اللہ کا خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کوئی فریب ہے۔ اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں نیرائی کے راستے پر جان سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں، کچھ صالح ہو سکتے ہیں کچھ صالح بنتے ہیں صالح ہونا خوش قسمتی بات ہے صالح بننا مسلسل تہذیب اور عبادت کا عمل ہے اس میں وقت لگنا ہے اور تکلیفیں بھی سہاڑتی ہیں۔

If the world does not attract you, use semi collin
fear of Allah gives you tears, if the thought of
hell gives you goose bumps with Allah's rage, if

you worship Allah, as it ought to be, he deserves

Do not capitalize word after comma

deeds attract you and selfish deeds does not

you

and your refrain from satanic path

You need to come up with idiomatic expressions

Do not change the context

and Satanic deeds seem you joyless, then you are a pious person. Some are born pious whereas some struggle to ^{to become} be pious.

Try not to change the context

By birth being so is a blessing; otherwise,

it requires continuous, strict self ^{accountably/assessment} checks. It

requires time and patience, too.

and enduring